

سی تھرو سکاروز Scarves پہننا کیسا؟

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ

الاستفتاء کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یو کے بہت سی مسلم عورتیں سی تھرو سکاروز See through scarves پہنتی ہیں جس سے ان کی گردن اور ان کا سینہ نظر آتا ہے ۔ کیا ایسے سکاروز میں نماز ہو جائے گی اور ایسی نماز ویلڈ ہے ۔

سائلہ کلثوم انگلینڈ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِی التَّوْرَ وَالصَّوَاب

اتنا باریک سکارف جس سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ یا پورا عضو نظر آئے یا سینے یا گردن کا چوتھائی حصہ دیکھائی دیتا ہو یا بالوں کی سیاہی چمکے ایسے سکارف میں نماز نہ ہوگی اور جتنی نمازیں ایسے سکارف میں پڑھی ہیں وہ نہ ہوئیں اور سب کو دوبارہ پڑھنا ہوگا ۔ صرف ان تمام نمازوں کے فرائض کو دہرا لیا جائے ۔ جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے **وَالثُّوْبُ الرَّقِیْقُ الَّذِیْ یَصِفُ مَا تَحْتَهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیْهِ** اتنا باریک کپڑا جس سے اس کے اندر چیز نظر آئے اس میں نماز جائز نہیں ۔

الفتاوی الہندیۃ ، کتاب الصلاة، الباب الثالث فی شروط الصلاة، الفصل الأول، ج ۱،

ص ۵۸

اور بہار شریعت میں ہے اتنا باریک دوپٹا، جس سے بال کی سیاہی چمکے، عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی، نہ ہوگی، جب تک اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے، جس سے بال وغیرہ کا رنگ چھپ جائے۔

کسی عضو کا چوتھائی سے کم حصہ نظر آئے تو وہ معاف ہے مگر چوتھائی یا زیادہ ننگا ہوتو نماز نہ ہوگی۔ اسی قول پر فتویٰ ہے ۔

جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے **فَلَا یُجْعَلُ عَفْوًا الرَّبْعُ وَمَا فَوْقَهُ کَثِیْرٌ وَمَا دُوْنَ الرَّبْعِ قَلِیْلٌ وَهُوَ الصَّحِیْحُ**

چوتھائی یا اس سے زیادہ کثیر ہے وہ معاف نہیں مگر جو چوتھائی سے کم ہے وہ قلیل ہے یہی صحیح قول ہے۔

الفتاوی الہندیۃ ، کتاب الصلاة، الباب الثالث فی شروط الصلاة، الفصل الأول، ج ۱،

ص ۵۸

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

خادم دارالافتاء و اسلامک لاء کونسل یو کے

Date:30 -07-2019

How is to wear a see-through scarf?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: Many Muslim females in the U.K. wear transparent¹ scarves which means one can see through them, showing their necks and (upper) chest². Is salāh valid wearing such scarves?

Questioner: Kalsoom from England

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بعون الملِك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

Salāh will not be valid whilst wearing such a thin scarf which shows a quarter or all of a limb (i.e. part of the body), or whilst a quarter of the chest or neck is exposed, or the blackness of the hair of a female; any salāh prayed wearing such a scarf will not have been valid - it will have to be prayed again; only the Fard & Wājib of all such salāh are to be repeated.

Just as it is stated in Fatāwā ‘Ālamgīrī,

"وَالثَّوْبُ الرَّقِيقُ الَّذِي يَصِفُ مَا تَحْتَهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ"

“Salāh is not permitted in such thin clothes which show what is inside [i.e. what it is meant to be covered].”

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, pg 58]

Likewise, it is stated in Bahār-e-Sharī‘at that if a female wore such a thin head covering for salāh, beneath which the blackness of the hair is visible, then the salāh will not be valid, unless she covers it with something which hides the colour of the hair, etc. If less than the quarter of any limb which is Fard to be covered is exposed during salāh, then this amount is excused [i.e. the salāh will still be valid]. If a quarter was exposed and one covered it immediately, then in this case, the salāh will also still be valid. However, if it remained exposed for the duration of one ‘Rukn’, i.e. the amount of time it takes to say **سُبْحَانَ اللَّهِ** thrice, or if it was exposed

¹ Translucent scarves are also not allowed as the colour (of the skin/hair) is still visible; it needs to be opaque.

² i.e. just directly below the front part of the neck.

intentionally, even though it was covered immediately thereafter, the salāh will be regarded as being invalid (in both cases).

The verdict is issued according to this stance.

[Bahār-e-Sharī'at, vol 1, part 3, pg 481]

Just as it is stated in Fatāwā 'Ālamgīrī,

"فَلَا يُجْعَلُ عَفْوُ الرُّبْعِ وَمَا فَوْقَهُ كَثِيرٌ وَمَا دُونَ الرُّبْعِ قَلِيلٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ"

"A quarter or more [of a limb] is not excused, except the fact that of course whatever is less than a quarter is regarded as less - a small amount - and this is the correct stance."

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, part 1, pg 58]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali